

موز ابلاغ کے مغربی نظریات اور اسلامی نقطہ نظر

ڈاکٹر نوید اقبال انصاری

اسٹنسٹ پروفیسر، شعبہ ابلاغ عامة، جامعہ کراچی، کراچی

محمد اسماعیل شفیق

اسٹنسٹ پروفیسر، شعبہ ابلاغ عامة، جامعہ کراچی، کراچی

Abstract

In this article the impact of message on the audience have been studied. The western theorist have different theories about the message and its effect on audience. We analyzed the western theories and the Islamic perspective about message and impact of message. It is very significant that the western theories are based on experiment and observations every theorist emphasizes that, theory is cent percent correct but all the western theories are in contradiction with each other's. On the other hand there is no relevance with the Islamic perspective. Quran and Sunnah discussed the message and its impact with another point of view that is the truthfulness of the message and in the western theories this point of view has never been addressed. For that reason the differences will be discussed under this article.

Key words: Media, Audience, Communication

قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کسی بھی ابلاغ کے موز ہونے کی شرائط مخصوص نظر آتی ہیں جبکہ موجودہ خاص کرمغربی ماہرین ابلاغ کا اس سلسلے میں جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کے بے شمار نظریات ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے سے خاصہ تضاد بھی رکھتے ہیں۔

ابلاج کے لوگوں پر اثرات سے متعلق مختلف ماہرین ابلاغیات کے مختلف نظریات ہیں جن میں بندوق کی گولی کا نظریہ،

انجکشن کی سوئی کا نظریہ، پیش ترتیبی کا مفروضہ، عمرانی درجات و عمرانی تعاقبات کا نظریہ، شافتی اقدار کا نظریہ، افادہ اور تسلیم کا تصور، اثرات اور بے اثری کے نظریات، تشدد کے نظریات، مشاہداتی اکتسابی کا نظریہ، استحکام کا نظریہ، رویے میں تبدیلی کے مختلف نظریات، نظریہ نفوذ اور نظریہ مظہریت پسند و غیرہ شامل ہیں۔

بندوق کی گولی اور انجکشن کی سوئی کے نظریے کے مطابق پریس، بندوق سے نکلنے والی کسی گولی کی طرح ٹھیک اپنے نشانے پر پہنچتا ہے اور جس طرح ایک سوئی جسم میں داخل ہو کر دوا کوفوری طور پر پورے جسم میں شامل کر دیتی ہے بالکل ویسے ہی ذرا رائج ای بلاغ لوگوں پر اپنے اثرات ڈال دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کے تناظر میں بندوق کی گولی، اور انجکشن کی سوئی، کا نظریہ وجود میں آیا۔ اس نظریے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ذرا رائج ای بلاغ ہو کہہ لوگ اس پر یقین کریں کہ وہ درست ہے۔ پہلی جگہ عظیم کے فوراً بعد کا زمانہ اتحادیوں اور محوری طاقتلوں کے مابین زبردست پروپیگنڈے کا زمانہ تھا۔ نازیوں اور کیونٹوں نے عوام کو بے حد خوف زدہ اور دہشت زدہ کیا۔ اس زمانے میں ای بلاغ عامدہ کے نظریات عام طور پر پریس کی قوت کے تصور پر مبنی تھے۔ انھی تصورات میں بندوق کی گولی اور انجکشن کی سوئی کا نظریہ بھی شامل ہے۔ (۱)

پیش ترتیبی نظریے کے مطابق لوگوں کے ذہن میں کسی خاص موضوع کو اس طرح نمایاں کر دیتا ہے کہ لوگ بے شمار موضوعات کی موجودگی کے باوجود اپنی توجہ مخصوص ایک ہی موضوع پر مرکز کیے رہتے ہیں۔ گویا کسی ایک موضوع کو لوگوں میں مقبولیت کا درجہ حاصل ہوتا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ذرا رائج ای بلاغ کے اس تصور کے تحت لوگوں کے ذہنوں کو یہ تو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کس موضوع کے بارے میں کس زاویے سے سوچیں البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ کس موضوع پر سوچیں گویا لوگ اصل مسئلہ کو بھول کر صرف ذرا رائج ای بلاغ پر پیش کیے جانے والے مسئلہ کو ہی اپنا حقیقی مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ (۲)

شافتی اقدار کے نظریے کے تحت ذرا رائج ای بلاغ رائے عامدہ کی تبدیلی، میں نئی اقدار کی تخلیق اور موجودہ طرز عمل میں انقلاب کے ذریعے نئے شافتی رجනات پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کی سوچ و پسند اور مزاج میں بھی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر پیشگی ترتیب کے نظریے کے تحت ذرا رائج ای بلاغ کے پروگرام ترتیب دیے جائیں تو یقیناً یہ لوگوں کی شافتی اقدار کی تبدیلی کا باعث ہو گا البتہ یہ طنین کیا جاسکتا ہے کس تیزی اور کسی شرح سے یہ تبدیلی واقع ہوگی۔ (۳)

افادہ اور تسلیم کے تصور کے تحت ذرا رائج ای بلاغ میں لوگوں کو اپنی ضرورتوں کی تسلیم اور ذاتی مقاصد کی تکمیل کسی حد تک ہوتی نظر آتی ہے۔ Hulten اور Berg کے مطابق افادہ اور تسلیم کی نجگان کا انحراف کی مفرضوں پر مشتمل ہے مثلاً یہ کہ لوگ ذرا رائج ای بلاغ سے متحرک ہونے کی بنا پر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے خاص قسم کے مفہومات (Contents) کا انتخاب کرتے ہیں یا لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذرا رائج ای بلاغ کس طرح ان ضرورتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں یا لوگ جب کسی شے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ذرا رائج ای بلاغ کا ہاتھ کا رفرما ہوتا ہے۔ (۴)

تشدد کے نظریات کے تحت وی پر گراموں میں شامل تشدد کے مناظر دیکھنے والوں کی خصیت پر بھی کچھ ایسا ہی اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مغرب میں کی گئی تحقیقات کے نتائج سے اخذ کیا گیا کہ تشدد کے پروگرام اور ناظرین میں گہرائیاً تعلق پایا جا

تا ہے۔ یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا کہ لوگوں کی عام زندگی میں ناکامیوں اور مایوسیوں نے بالآخر جارحانہ رویے کی شکل اختیار کی جب تھی وی پر گراموں نے جن میں تشدید کے مناظر شامل تھے انھیں اس اظہار کا موقع فراہم کیا۔ (۵)

جارحانہ تنبیہات کے نظریے کے تحت تھی وی پر گراموں سے تشدید کا اظہار افراد میں فعالیتی اور جذباتی جوش کو ابھارتا ہے جو جارحانہ عمل پیدا کرتا ہے۔ نظریے کے مطابق انفرادی عدم مطابقت اور ترجیح اور اک کا تصور اس نظریے کی بنیاد ہے۔ (۶)

مشابہاتی اکتساب کا نظریہ پیش کرنے والوں کے مطابق ناظرین ٹیلی ویژن پر گراموں کے ذریعے جارحانہ طرز عمل سیکھ سکتے ہیں اور ان کے کرواروں کی تشدید خصوصیات اختیار کر سکتے ہیں جنہیں وہ تشدید کرتے ہوئے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر پُر تشدید مناظر سے بھر پور پر گراموں سے دیکھنے والوں کو تشدید کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور ان کے جارحانہ رویے میں اضافہ ہوتا ہے۔ (۷)

نظریہ استحکام کے پیش روکا کہنا ہے کہ پُر تشدید پر گراموں سے ناظرین میں پہلے سے موجود تشدید کے جذبات اور تصورات استحکام ملتا ہے البتہ ان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ (۸)

رویے میں تبدیلی سے متعلق ”وقنی موافقت“ کا نظریہ کئی ماہرین نے پیش یا جن میں لازر مسفیلڈ (Lazarsfeld) ، جوزف کلپر (Joseph Klapper) اور ڈی فلیور (De Fluer) شامل ہیں۔ ان ماہرین نے اپنی تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لوگ ذرائع ابلاغ کے پیغامات کو اپنے ارد گرد کے عقائد اور اقدار سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایسے پیغامات کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں جو ان کے عقائد و اقدار سے ہم آہنگ نہ ہوں گویا وہ اپنے موجودہ نظریات کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۹)

وقنی عدم موافقت نظریے کو لین فینٹینگر (Leon Festinger) نے پیش کیا۔ اس نظریے کے تحت وہ اطلاعات جو فرد کے پہلے سے اختیار کر دے عقائد سے ہم آہنگ نہ ہوں فرد میں عدم موافقت پیدا کر دیتی ہے جس کو وہ لازماً دو کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو سگریٹ پیتا ہے اسے معلوم ہے کہ عمل صحت کے نقطہ نظر سے درست نہیں ہے تا ہم وہ سگریٹ پینا نہیں چھوڑتا بلکہ اس عدم موافقت کر دو کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے دلائل (تلی کے لیے) اکٹھے کر لیتا ہے مثلاً وہ یہ کہ جناب اس سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے لہذا میں صرف ہاضمے کی درستگی کے لیے سگریٹ پیتا ہوں۔ (۱۰)

ترجیحی انتخاب نظریہ کے مطابق لوگ ایسے ابلاغی پیغامات پر جلد توجہ دیتے ہیں جو ان کے پہلے ہی اختیار کردہ رویوں اور مفادات کے مطابق ہوں لیکن وہ ایسے پیغامات کو قبول کرنے سے پرہیز کرتے ہیں جن سے عدم موافقت پیدا ہوتی ہو۔ لازر مسفیلڈ، ییریلیسون اور گاؤٹ نے بھی اپنے مطالعے سے یہی نتائج اخذ کیے ہیں۔ (۱۱)

نظریہ ترجیحی یادداشت کے تحت لوگ ایسی معلومات کو جلد ہیں نہیں کر لیتے ہیں یا زیادہ عرصے تک یاد رکھتے ہیں جو ان کے رویوں اور مفادات سے موافقت رکھتی ہوں۔ ایک شخص کسی پیغام کا ترجیحی انتخاب کرتا ہے اس کا ادراک کرتا ہے اس مرحلے کے بعد وہ پیغامات جو اس کے خیالات سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہوتے ہیں وہ جلد ہیں میں محفوظ ہو جاتے ہیں جب کہ دیگر دوسرے

پیغامات مندل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پیغامات شعور سے لاشور اور تحت الشعور تک چلے جاتے ہیں اور وقت ضرورت دربارہ ذہن میں یادداشت کے طور پر آ جاتے ہیں۔ (۱۲)

ترجیحی ادراک کے نظریے کے تحت بعض افراد پیغامات وصول کرنے کے بعد اس سے اپنے خیالات کے مطابق نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک گلاس میں پانی موجود ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہے جب کہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، یوں ایک ہی موضوع اور ایک ہی پیغام کے بارے میں لوگوں کے ادراک کے مختلف ہوتے ہیں۔ (۱۳)

ترجیحی عمل کے نظریے کے تحت رویے میں تبدیلی شعوری عمل کے تحت بھی ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ سے بے شمار پیغامات جاری رہتے ہیں جب کہ پیغامات زیادہ پُرکشش ہوں یا پیغام وصول کنندہ کے خیالات، نظریات، عقائد اور پسند و ناپسند سے تعلق رکھتے ہوں وہ ان پر عمل کرتے ہیں اور دیری تک یاد بھی رکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایسے پیغامات جو وصول کنندہ کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتے یا جو کہ ان کے نظریات کے عکس ہوں انہیں یاد رکھنا یا ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک شخص کے سامنے اخبار کی بے شمار خبریں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ تمام خبروں کو نہیں پڑھتا صرف انہی خبروں کو پڑھتا اور یاد رکھتا ہے جو اس کے نظریات، عقائد اور پسند کے دائرے میں آتی ہیں، باقی خبروں کو ایک نظر ڈال کر چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح اخبارات کے صفحے بھی پلٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ (۱۴)

مندرجہ بالا مفکرین کے ابلاغ کے اثرات سے متعلق خیالات میں مختلف زاویے پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد اس کے مشاہدے اور تحقیقات ہیں تاہم دین اسلام میں قرآن و حدیث کے حوالے سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ بڑی دوڑک اور واضح ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں گو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے حوالے سے ہے۔ ان تعلیمات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو کون لوگوں پر اس کا ثابت اثر ہوتا ہے اور کون لوگوں پر اس کا بالکل ہی اثر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں پر اثر ہوتا ہے یعنی اللہ کے پیغام کا موثر اثر ہوتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جو قطعی آزادانہ طور پر درست راستہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ایسے لوگوں کے پاس اللہ کے پیغمبر و رسول سے منہ زبانی پیغام پہنچے یا کسی اور مبلغ کی طرف سے یا کسی اور ذریعے سے تحریری شکل میں پہنچے، ان پر اس پیغام یعنی ابلاغ کا ایسا موثر اثر ہوتا ہے کہ پیغام وصول کرنے والا اپنے پرانے نہیں وثائقی نظریات میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے جیسا کہ حضرت علیؓ نے بھی فرمایا کہ دلوں کی کچھ خواہش اور میلانات ہوتے ہیں کسی وقت وہ بات سننے کے لیے تیار ہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں رہتے تو لوگوں کے دلوں میں ان میلانات کے اندر سے داخل ہو اور اس وقت اپنی بات کہو کہ جب وہ سننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ دل کا حال یہ ہے کہ جب اسے کسی بات پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اندر ہا ہو جاتا ہے۔ (۱۵)

اس قول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی فرد پر کسی بھی ابلاغ کا اثر اس وقت ہی ہو گا کہ جب وہ دل سے اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہونے کے پہلے ہی سے مخالفت پر آمادہ ہو، جبکہ موجودہ ابلاغ کے بعض نظریات کے تحت انسان ایسا پیغام سننا ہی نہیں چاہتا یا اس پر کسی ایسے ابلاغ کا قطعی اثر نہیں ہوتا جو پیغام وصول کرنے والے کے پہلے سے موجود فکر و نظریات یا ثقافت کے خلاف ہو۔

قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر اس سلسلے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔

قرآن کی پہلی سورہ البقرہ آیت ۲ میں ارشاد ہوتا ہے:

”اس کتاب (کے اللہ کی) کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پر ہیز گاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔“

اس آیت کی تفہیم کہا گیا ہے کہ دیے تو یہ کتاب اللہ تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ، فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف اللہ سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب وہی کا احساس اور جن کے اندر ہدایت کی طلب، یا گراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ (۱۲)

سورہ یونس کی آیت ۳۲ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

”اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کیا آپ بہروں کو سانتے ہیں گو

ان کو سمجھ بھی نہ آئے۔“

یعنی ظاہری طور پر یہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سنن کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں اس لیے انھیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ (۱۷)

اسی طرح سورہ یونس کی آیت ۱۰ میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

”آپ کہہ دیجیے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔“

سورہ الاعراف آیت ۱۰۳ میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

”پھر ان کے بعد ہم نے موئی کو اپنے دلائل دیکھ فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔“

سورہ الاعراف کی آیت ۹۷ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھ سکتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپا یوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں۔“

اسی سورہ کی ایک اور آیت ۱۹۸ میں ارشاد ہوتا ہے:

”اور ان کو اگر کوئی بات بتانے کو پکارو تو اس کو نہ سینیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“

سورہ الاعراف کی مندرجہ بالا آیات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مذکورین حق کو اگر چہ کتنے ہی دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے

یا ان سے کتنا ہی عمدہ ابلاغ کیوں نہ کیا جائے چونکہ وہ منکرین حق ہیں لہذا ان پر کسی پیغام یا ابلاغ کا اثر نہیں ہوتا بلکہ ویسے ہی جیسے بہرے اور انہے کوئی بات سنائے جائے، کچھ دکھایا جائے تو اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو۔ مذکورہ بالاقرآنی آیات کے تناظر میں ہم مغربی مفکرین کے پیش کردہ مختلف ابلاغی نظریات کا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ ان کے یہ نظریات مثلاً بندوق کی گولی، پیش ترتیبی مفروضہ، ثقافتی اقدار، افادہ تسلیم، استحکام، رویے میں تبدیلی، نفوذ اور نظریہ مظہریت پسند اس کے قطعی بر عکس ہیں کیونکہ ان تمام نظریات میں پیغام وصول کرنے والے پراشرات کا کوئی نہ کوئی زاویہ ضرور موجود ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق منکرین حق پر کسی بھی پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوتا چاہے کتنی ہی دلیلوں کے ساتھ پیغام کیوں نہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت سورہ الاعراف ہی کی آیت ۵۸-۷۷ میں اس طرح ملتی ہے۔

”پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں یوہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سبھو، اور جو ستری سرز میں ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار کم نکلتی ہے۔“

حدیث شریف میں مزید وضاحت اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی ہے۔ اس کے جو حصہ رخیز ہوتے ہیں انھوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا اور اسکے بعض حصے سخت تھے جنھوں نے پانی تو روک لیا (یعنی اندر جذب نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خوب بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا، بس اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، پس خوب بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سیکھایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔“ (۱۸)

سورہ التوبہ آیت ۱۲۵ میں ارشاد ہوتا ہے:

”اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھادی اور وہ حالت کفر میں مر گئے۔“

اسی طرح بنی اسرائیل کی آیت ۸۲ میں ارشاد ہے:

”یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان

کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔“

گویا یہاں بھی مغربی مفکرین کے پیش کردہ مختلف نظریات کے بر عکس واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی پیغام (سورت) آتی ہے تو اس کا ثبت اثر صرف اہل ایمان پر ہی ہوتا ہے اور اس کا انھیں فائدہ بھی پہنچتا ہے جب کہ مفکرین حق اس سے قطعی محروم رہتے ہیں بلکہ اس کے فوائد کو سمجھنے سے بھی قادر رہتے ہیں۔

مزید سورہ یوسف کی آیت ۱۰۳ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”گواپ لا کھچا ہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہونگے۔“

اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بچھے واقعات سے آگاہ فرمائے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گذشتہ قوموں کے واقعات کو سنتے تو ہیں لیکن عبرت پزیری کے لیے نہیں، صرف دلچسپی اور لذت کے لیے، اس لیے وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ (۱۹)

یہاں ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا اثر، پیغام وصول کرنے والوں کی اکثریت پر نہیں بلکہ اقلیت پر ہوتا ہے گویا پیغام اگر حق پر مبنی ہو تو کسی بھی مغربی نظریہ ابلاغ کے بر عکس اقلیت پر ہی ثبت اثر مرتب کرے گا کیونکہ اکثریت کبھی بھی عبرت پکڑنے یا حق کو تسلیم کرنے پر تباہ نہیں ہوتی۔ اسلامی ابلاغ کا یہ پہلو مغرب کے کسی بھی نظریہ ابلاغ میں موجود نہیں ہے۔

مزید سورہ الکھف کی آیت نمبر ۵۷ دیکھیے:

”بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے (نہ) سمجھیں اور ان کے کانوں میں

گرانی ہے گو تو انھیں ہدایت کی طرف بلا تار ہے لیکن کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔“

تفسیر، یعنی ان کے ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انھوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوقول کو جھوٹے رہے، ان کے دلوں پر ایسے پر دے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیئے گئے ہیں جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بالویہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔

منکرہ پیغام الہی کے مطابق موثر ابلاغ سے متعلق مغربی نظریات کی کوئی قسم بھی کارگر نظر نہیں آتی، ان میں سے کسی بھی نظریہ کے تحت کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لی جائے منکرین حق پر کسی طرح اللہ کے پیغام کا اثر نہ ہو گا۔

مزید سورہ الانبیاء کی آیت ۲۵ اور اس کی تفسیر ملاحظہ کیجئے:

”کہہ دیجئے! میں تو تمھیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کرتا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انھیں

آگاہ کیا جائے۔“

تفسیر:

”یعنی قرآن سننا کر انھیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور یہی میری ذمے داری اور منصب ہے لیکن جن لوگوں کے کانوں کو اللہ نے حق سننے سے بہرا کر دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگا دی ان پر اس قرآن کا اور وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔“ (۲۰)

ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام کو موثر بنانے کے لیے حکمت استعمال نہ کی ہو یا اپنانے کی ہدایت نہ کی ہو، مثلاً سورہ طہ آیت ۳۲-۳۳ میں ارشاد ہوتا ہے:

”تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ اسے زمی سے سمجھا و کہ شاید وہ سمجھ لے یا ذر جائے۔“

بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہو گا، کوئی بندہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کے باوجود ابلاغ کو موثر بنانے کے لیے مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے سرکش کو بھی پیغام دینے کا وہ طریقہ بتایا جو سب سے بہتر ہے۔ مددی سورہ الحلق کی آیت ۲۵ دیکھئے:

”اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلا یہ اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے۔“

اس آیت میں تسلیخ دعوت (ابلاغ) کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت، موعظہ حسن اور مفق و ملائکت پر مبنی ہیں۔ (۲۱) یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو موثر بنانے کے لیے تمام اہم شرائط سے بھی آگاہ کر دیا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان شرائط کو اپنا نے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنا اثر پیغام وصول کرنے والے پر صدقی صدر مرتب کرتا ہے البتہ صرف لوگوں کی ان تعداد پر جو واقعی حق اور حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اور پہلے سے مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسے لوگوں تک جب پیغام پہنچتا ہے تو پھر کسی پیش ترتیبی نظریے کی ضرورت نہیں رہتی کہ پیغام وصول کنندہ اس نظریے کی رو سے متاثر ہو کر پیغام کا اثر قبول کرے، نہ ہی کسی ثقافتی اقدار کے نظریے کی متابیجی رہتی ہے کہ ثقافتی تبدیلی کو مخصوص حالات میں تسلیم کرے بلکہ وہ خود ایک بڑی ثقافتی تبدیلی کو بھی قبول کر لیتا ہے جیسا کہ اسلام کا پیغام قبول کرنے والوں کی زمانہ جاہلیت کی تمام ثقافتی قدریں یکسر تبدیل ہو گئیں۔ اسی طرح نہ ہی ترجیحی انتخاب، ادراک اور یادداشت کے نظریے کی ضرورت رہتی ہے نیز ترجیحی عمل کا نظریہ بھی ایک طرف رہ جاتا ہے اور پھر کوئی نظریہ کار گر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پر من عن عمل کرنے کا ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر پیغام وصول کرنے والے ملنکرین حق ہو تو پھر مغربی و جدید عصر کے مفکرین و ماہرین ابلاغیات کے پیش کردہ مذکورہ تمام نظریات بے اثر نہ کام ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، پیغام وصول کرنے والوں پر کسی فقہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

مغربی نظریات میں پیغام کے حق یا سچا ہونے کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ کسی بھی پیغام خواہ وہ حق ہو یا نہ ہو، پیغام وصول کنندہ پر اثرات سے متعلق مختلف نظریات ہیں جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے (جس کی قرآن و حدیث میں بڑی واضح بات کی گئی ہے) قطعی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کے تباہ ہوئے راستے پر (پیغام وصول ہونے کے بعد) وہی لوگ آتے ہیں جو اچھے اور

موثر ابلاغ کے مغربی نظریات اور اسلامی نقطہ نظر

برے کی تغیر کھتے ہوں، اچھائی کو اختیار کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہوں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کا بھرپور ثابت اثر ڈالتا ہے اور جو دل سے حقیقت کو سمجھنے کو تیار نہ ہوں، اچھائی کو اپنانے کی خواہش نہ رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کا کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ انھیں اور ڈھیل دے دیتا ہے جس کے بعد ایسے لوگوں کو برائیوں کے پیغامات میں زیادہ لذت اور فائدہ نظر آتا ہے اور اسی کے پھر اثرات ان پر مرتب بھی ہوتے ہیں یوں قرآن کے مطابق وہ حق کے مخالف پیغامات کے اثرات میں گھرتے چلے جاتے ہیں، لہذا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مغربی مفکرین کی جانب سے مشاہدات و تجربات کے بعد جو نظریات پیش کیے گئے ہیں ان میں حق اور ناحق کی کوئی تفریق نہیں ہے نہ ہی انھیں اس حوالے سے کوئی سمجھے ہے کہ پیغام کے موثر اثرات کے حوالے سے حق اور سچائی کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ Graths.Jwett:1992,"Propaganda and Persuasion" II Edition, Sage Publication, New Dehli.
- ۲۔ Philip M. Taylor: 1999,"War and the Media propaganda and persuasion in the Gulf war",Manchester and New York, Manschaster University Press
- ۳۔ ابلاغیات، ۱۹۸۲ء، شعبہ ابلاغ عامہ جامعہ کراچی
- ۴۔ نظریات ابلاغ، ۱۹۹۸ء، شعبہ ابلاغ عامہ جامعہ کراچی
- ۵۔ ایضاً
- ۶۔ Godwine, CHU,1001,"Social Impact of Satelite Television in Rural Indonesia" AMIC,Singapore.
- ۷۔ نظریات ابلاغ، محوالہ بالا
- ۸۔ ابلاغیات، محوالہ بالا
- ۹۔ نظریات ابلاغ، محوالہ بالا
- ۱۰۔ Tony Schwotz:1083,"Media:The Second God",New York
- ۱۱۔ See above, Graths.Jwett
- ۱۲۔ Ibid,
- ۱۳۔ نظریات ابلاغ، محوالہ بالا
- ۱۴۔ ابلاغیات، محوالہ بالا
- ۱۵۔ ندوی، مولانا، جلیل احسن، راعی، ص۲۳۹، ۲۰۰۲ء، اکتوبر ۲۰۰۲ء، اسلامک پبلیکیشن پرائیویٹ لیمیٹڈ، لاہور
- ۱۶۔ شاہ فہد قرآن کریم پر منگ، المدینۃ المونیہ، ص۹
- ۱۷۔ شاہ فہد قرآن کریم پر منگ، ص۵۷، محوالہ بالا
- ۱۸۔ صحیح بخاری، کتاب الحکم، باب الفصل من علم و علم
- ۱۹۔ تفسیر شاہ فہد قرآن کریم، سعودی، ص۲۷۳
- ۲۰۔ ایضاً، ص۸۳